

FA Part 2 Home Economics Full Book Online MCQ's Test

Sr	Questions	Answers Choice
1	حیاتی الف کس کی درستگی اور صحت کے لیے نہایت ضروری ہیں	A. بینائی اور آنکھوں کی درستگی B. ہڈیوں کی افزائش کے لیے C. دماغ کی درستگی D. آنتوں کی بہتری
2	انسان امیر ہو کہ غریب اسے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے	A. متوازن ورزش B. پانی کی C. متوازن غذا کی D. مشروب کی
3	مکمل پروٹین یا ضروری امینو ترشے کتنے ہوتے ہیں	A. دو B. چھ C. چار D. آٹھ
4	قدرتی ریشے کتنے ہوتے ہیں	A. دو B. تین C. چار D. آٹھ
5	بیماری تندرستی اور صحت کا دارومدار ہے	A. آب و ہوا پر B. پانی پر C. نشاستہ پر D. متوازن غذا پر
6	شہری علاقوں میں فہرست طعام ہوتا ہے دن میں	A. دو وقت B. تین وقت C. ایک وقت D. چار وقت
7	گندم کا تخم کھلاتا ہے	A. اینٹو سپرم B. اناج C. جرم D. کوئی نہیں
8	لباس کی سلانی کے لیے لازمی جزو ہے	A. فینچی B. دھاگہ C. مشین D. کپڑا
9	حیاتی کون سے نظام کو درست رکھتے ہیں	A. دوران خون B. نظام انہظام C. نظام تنفس D. نظام اخراج
10	ریشے سے مراد خام مال کا وہ تار ہے جو کام آتا ہے	A. دھاگہ بنانے کے B. چادر بنانے کے C. اون بنانے کے D. روئی بنانے کے
11	خریداری کے عمل کا انحصار کس پر ہوتا ہے	A. غربت پر B. مالی استطاعت پر C. دولت پر D. وقت پر
12	کاربوہائیڈریٹ کو اردو میں کہا جاتا ہے	A. وٹامن B. حرارے C. نشاستہ D. غذائی گروہ
13	پروٹین میں کیا کیشامل ہوسکتا ہے	A. لوہا اور آئوٹین B. سلفر اور گندھک C. نائٹروجن D. فلسفورس
14	حیاتی (ک) ہمارے جسم میں کس کام آتی ہیں	A. خون کو منجمد کرنے کے B. تنفس کا نظام بہتر کرنا C. نظام انہظام درست کرنا D. دوران خون صحیح کرنا
15	پکانے کے عمل کو تیز کرنے کے لیے کس کو ڈھکن سے ڈھانپنا ضروری ہے	A. دیکچی کو B. تھالی کو C. دیگ کو D. پیالے کو

16	حیاتی (ج) کی کمی سے کون سی بیماری لاحق ہوتی ہے	A. ملیریا B. تینج C. تالیفائیہ D. سکروی
17	جسم کو توانائی کس سے ملتی ہے	A. نشاستہ اور چربی سے B. لحمیات سے C. پروٹین سے D. حیاتی سے
18	کپڑوں کی منصوبہ بندی کا مقصد ہے	A. کم از کم B. زیادہ سے زیادہ C. نہ کم نہ زیادہ D. کوئی نہیں
19	رقم کے عوض کسی بھی چیز کا حصول کیا کہلاتا ہے	A. خریداری کا عمل B. نقصان کا عمل C. خرید و فروخت D. منافع کا عمل
20	ایسی ضروری خوراک جس پر ہماری زندگی کا دارومدار ہوتا ہے وہ ہے	A. خوراک B. متوازن خوراک C. بنیادی خوراک D. غیر متوازن خوراک